

<b>COVID-19 Support Resources FAQ for Undocumented Students</b>	غیر دستاویزی طلبہ کے لئے <b>CoVID-19</b> امدادی وسائل کے سوالات
<b>Your local adult school is here to support you during this time. Contact</b>	آپ کا مقامی بالغاں اسکول اس وقت کے دوران آپ کی مدد کرنے کے لئے حاضر ہے۔ رابطہ
<b>Leslie Dahlquist, Lodi Adult School (209) 426-0991 Call or Text ldahlquist@lodiusd.net</b>	
<b>to discuss your specific situation and get connected to resources</b>	وسائل سے جڑنے اور آپ کی مخصوص صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے
<b>Sign up for Text Alerts! Text COVID19 to 211211 (and respond with your zip code) to receive COVID updates</b>	ٹیکسٹ الرٹس کے لئے سائن اپ کریں! 211211 پر COVID19 لکھ کر بھیجیں (اور اپنے زپ کوڈ کے ساتھ جواب دیں) COVID کی اپ ڈیٹس حاصل کریں
<b>I've heard getting public services will hurt my immigration status. What am I eligible for and where can I get more information? Please review this <a href="#">Immigrant Eligibility Overview</a></b>	میں نے سنا ہے کہ عوامی خدمات حاصل کرنے سے میری امیگریشن حیثیت مجروح ہوگی۔ کیا میں اس کا اہل ہوں اور مزید معلومات مجھے کہاں سے مل سکتی ہیں؟ براہ مہربانی اس کا جائزہ لیں <a href="#">Immigrant Eligibility Overview</a>
There is lots of misinformation - Undocumented students <b>are</b> eligible for many services that will not hurt your status	● بہت ساری غلط معلومات ہیں۔ غیر دستاویزی طلبہ جو بہت سی خدمات کے اہل ہیں جو آپ کی حیثیت کو نقصان نہیں پہنچاتے
California has a financial support program for undocumented	○ کیلیفورنیا میں غیر دستاویزیوں کے لیے مالی تعاون کا پروگرام ہے
There are health care options for undocumented if you get sick	○ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو غیر دستاویزیوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے اختیارات موجود ہیں
Undocumented students can get legal assistance, financial help, medical care and other services	● غیر دستاویزی طلبہ قانونی، مالی، طبی دیکھ بھال اور دوسری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔
Contact the following people to learn what benefits you can receive	● درج ذیل لوگوں سے رابطہ کریں یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو کیا فوائد مل سکتے ہیں
Catholic Charities/ <a href="#">Delta College Dreamers Success Center</a> : Mike Lopez, <a href="mailto:malopez@ccstockton.org">malopez@ccstockton.org</a> (209) 954-5731	○ کیتھولک چیریٹی / <a href="#">Delta College Dreamers Success Center</a> : مائک لوپیز, 954-5731 (209) <a href="mailto:malopez@ccstockton.org">malopez@ccstockton.org</a>
Adult School counselors and transition specialists	○ بالغوں کے اسکول کے مشیر اور نقل مکانی کے ماہرین
<b><u>Where can I find updated translated Covid-19 information?</u></b>	<b><u>Covid-19 کی تازہ ترجمہ شدہ معلومات مجھے کہاں سے مل سکتی ہیں؟</u></b>
The organization Legal Aid has developed comprehensive FAQ documents <a href="#">covering the basics of COVID</a> and <a href="#">undocumented workers rights</a> . Undocumented immigrants <b>are</b> eligible for Disability Insurance and Paid Family Leave programs.	● قانونی تنظیم ایڈ نے سوالات پر مبنی جامع دستاویزات تیار کی ہیں <a href="#">covering the basics of COVID</a> اور <a href="#">undocumented workers rights</a> ۔ اور <a href="#">undocumented workers rights</a> ۔ Undocumented immigrants <b>are</b> eligible for Disability Insurance and Paid Family Leave programs۔ تارکین وطن معذوری انشورینس اور ادا شدہ فیملی رخصت پروگراموں کے اہل ہیں۔
<b><u>I can't pay rent right now. Can I be evicted?</u></b>	میں ابھی کرایہ ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا مجھے بے دخل کیا جاسکتا ہے؟

No. A statewide eviction moratorium is in effect through May 31, 2020	● نہیں۔ 31 مئی 2020ء کے دوران ریاست بھر میں بے دخلی کی مہلت نافذ العمل ہے
Rent obligations will need to be paid in the future	● مستقبل میں کرایہ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہوگی
<b><u>Can I submit an employment authorization application online?</u></b>	کیا میں روزگار کے لیے اجازت چاہنے والی درخواست آن لائن جمع کر سکتا ہوں؟
Yes. The U.S Citizenship and Immigration Services office is processing these applications online	● جی ہاں۔ امریکی شہریت اور امیگریشن خدمات کا دفتر ان درخواستوں پر آن لائن کارروائی کر رہا ہے
<b><u>Where can I get food assistance?</u></b>	مجھے کھانے کی امداد کہاں سے مل سکتی ہے؟
Lodi Community Center, 415 S Sacramento St. Daily pickup at 1. Photo ID and Address info required (209-331-7516)	● لوڈی کمیونٹی سنٹر 415 ایس سیکرامنٹو سینٹ، ڈبلی پک اپ 1۔ فوٹو ID اور پتہ کی معلومات درکار ہے (209-331-7516)
Manteca Second Harvest Food Bank, 704 Industrial Park Drive. Open M-F, 9am-2pm. No info required	● مانتیکا سیکنڈ ہارویسٹ فوڈ بینک، 704 انڈسٹریل پارک ڈرائیو۔ سوموار سے جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھولا رہتا ہے۔ کوئی معلومات درکار نہیں
Stockton Food Bank, 7 W. Scotts Avenue. Open M-F, 9am-12pm. Photo ID and Address info required	● اسٹاکٹن فوڈ بینک، 7 ڈبلیو اسکاتز ایوینیو۔ سوموار سے جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کھولا رہتا ہے۔ فوٹو ID اور پتہ کی معلومات درکار ہیں
Tracy Interfaith, 311 West Grant Line Rd. Open M-Th, 10am-2pm. Photo ID and Tracy Address info. 2-Week supply	● ٹریسی انٹرفیتھ، 311 ویسٹ گرانٹ لائن روڈ۔ سوموار سے جمعرات صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھولا رہتا ہے۔ فوٹو ID اور ٹریسی ایڈریس کی معلومات۔ 2-ہفتے کی فراہمی
Visit <a href="#">Community Connections SJC</a> online and do a "food" search	● آن لائن <a href="#">Community Connections SJC</a> کا معائنہ کریں اور "خوراک" تلاش کریں
<b><u>Where can I get Financial Help?</u></b>	مجھے مالی مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟
Talk with your Adult School to discuss the many available programs to meet your individual circumstances.	● اپنے انفرادی حالات کو پورا کرنے کے لئے بہت سارے دستیاب پروگراموں پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے اپنے بالغ اسکول سے بات کریں۔
If you are undocumented, contact your Adult School to discuss your options, including one-time California payments	● اگر آپ کو غیر دستاویزی ہیں تو، ایک بار کیلیفورنیا کی ادائیگیوں سمیت اپنے اختیارات پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے بالغ اسکول سے رابطہ کریں
If you are unable to work due to having or being exposed to COVID-19, <a href="#">file for Disability Insurance (DI)</a> .	● اگر آپ COVID-19 کے ہونے یا ہو جانے کی وجہ سے کام کرنے سے قاصر ہیں، <a href="#">file for Disability Insurance (DI)</a> .
If you are unable to work because you are caring for an ill or quarantined family member, <a href="#">file for Paid Family Leave (PFL)</a>	● اگر آپ کام کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ آپ کسی بیمار یا قرنطینہ والے خاندانی فرد کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو، <a href="#">file for Paid Family Leave (PFL)</a>
<b><u>What can I do to get a laptop or internet access to support work or school from home activities?</u></b>	گھر کی سرگرمیوں میں سے سکول یا کام کے لئے لیپ ٹاپ یا انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟
Discuss your technology needs with your local adult school	● اپنے مقامی بالغ اسکول سے اپنی ٹیکنالوجی کی ضروریات پر تبادلہ خیال کریں
Comcast and AT&T are both offering Free/Low Cost Internet Service	● Comcast اور AT&T دونوں مفت / کم قیمت والی انٹرنیٹ سروس پیش کرتے ہیں

<b><u>Who can I contact for mental health or self-care support?</u></b>	میں دماغی صحت یا خود کی دیکھ بھال کے لئے کس سے رابطہ کر سکتا ہوں؟
Catholic Charities 209/444-5940	● کیتھولک چیرٹیز 444/209-5940
Call your regular doctor, or San Joaquin County Behavioral Health: 209-468-9370	● اپنے باقاعدہ ڈاکٹر، یا سان جوکون کاؤنٹی سے متعلق سلوک کو کال کریں۔ 209-468-9370
For immediate help, call the Crisis Line: 209-468-8686 or National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-TALK (8255)	● فوری مدد کے لئے، بحران لائن کو کال کریں: 209-468-8686 یا قومی خودکشی سے بچاؤ کی لائن: 1-800-273-TALK (8255)
Refer to the <a href="#">California Surgeon General's Playbook</a> for Stress Relief During COVID-19	● COVID-19 کے دباؤ کے دوران نجات حاصل کرنے کے لئے <a href="#">California Surgeon General's Playbook</a> کے حوالے کریں۔
<b><u>What if I become a victim of domestic violence during COVID-19?</u></b>	اگر میں COVID-19 کے دوران گھریلو تشدد کا شکار ہو جاتا ہوں تو کیا ہوگا؟
In an emergency call 911	● ایمرجنسی میں 911 پر کال کریں
<a href="#">National Domestic Violence Hotline</a> 1(800) 799-7233; Text LOVEIS to 22522	● <a href="#">National Domestic Violence Hotline</a> 1(800) 799-7233 ; Text LOVEIS ; 22522 پر متن کریں
<a href="#">Women's Center Youth and Family Services</a> 209-465-4878	● <a href="#">Women's Center Youth and Family Services</a> 209-465-4878
<b><u>Additional Resources for Undocumented Students</u></b>	غیر دستاویزی طلبہ کے لیے اضافی وسائل
<a href="#">Immigrants Rising Comprehensive Compilation</a>	<a href="#">Immigrants Rising Comprehensive Compilation</a>
Includes tangible support for undocumented communities during COVID-19	● COVID-19 کے دوران غیر دستاویزی کمیونٹیز کے لئے ٹھوس سپورٹ پر مشتمل ہے
<a href="#">National Immigration Law Center</a>	<a href="#">National Immigration Law Center</a>
Includes a basic FAQ on immigrant worker rights and regular webinar series covering various COVID-19 related topics	● تارکین وطن کارکنوں کے حقوق سے متعلق بنیادی سوالات اور باقاعدگی سے ویبنار سیریز پر مشتمل ہے جس میں متعدد COVID-19 سے متعلق موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے
<a href="#">State of CA Guide for Undocumented Immigrants</a>	<a href="#">State of CA Guide for Undocumented Immigrants</a>
Comprehensive information resource from State of California	● ریاست کیلیفورنیا سے وابستہ وسیع معلوماتی وسائل
<a href="#">Spanish version</a>	● <a href="#">Spanish version</a>
<a href="#">California Immigrant Policy Center Resource Compilation</a>	<a href="#">California Immigrant Policy Center Resource Compilation</a>
Covers health, insurance and financial questions for immigrants and undocumented	● صحت سے متعلق، انشورنس اور تارکین وطن کے لئے مالی سوالات کا احاطہ کرتا ہے
<a href="#">Relief Funds compilation from Legal Aid</a>	<a href="#">Relief Funds compilation from Legal Aid</a>
Statewide Compilation of potential financial relief for undocumented students. Includes a reference to San Joaquin County area resources	● ریاست گیر ترتیب غیر دستاویزی طلبہ کے لئے مالی ممکنہ امداد سان جوکون کاؤنٹی کے علاقے وسائل کا حوالہ بھی شامل ہے